



LIDA Stories

lidastories.net

موسم ڪي ناري مٿي ٿا ڪرڻا / Parler de la

météo

✎ Espen Stranger-Johannessen

✎ Ognjen Drageljević

✎ Yasir Tayab (ur), Zina (fr)




This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

موسم ڪي ناري مٿي ٿا ڪرڻا

Parler de la météo




✎ Espen Stranger-Johannessen

✎ Ognjen Drageljević

✎ Yasir Tayab

|| 2


🗨️ / français 🇫🇷



“سردیوں کے دن آرہے ہیں۔ درجہ حرارت کیسے ہے؟”

...

“Les journées commencent à se rafraîchir. Quelle est la température ?”



“میں امید کر رہا ہوں ایسا نہ ہو۔ مجھے اصل میں خراب

موسم پسند نہیں ہے، خاص طور پر تبدیلی کی گرج اور

آسٹھنی بجلی۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آسٹھنی بجلی مجھ پر

نہ گر جائے۔”


...

“Je n’espère pas. Je n’aime vraiment pas le mauvais temps, surtout le tonnerre et les éclairs. J’ai peur que la foudre me frappe.”

“Regarde ces nuages sombres. Il va pleuvoir demain. Il y aura beaucoup de vent aussi. Peut-être qu’il y aura un orage.”

...


ان سجدہ فرما لوں گا کہ دیکھو۔ کل دیریش ہو گی۔ بہت تیز ہوائیں چلیں گی۔ بڑی طوفانی آئے گی۔“




“Il fait neuf degrés. Nous sommes toujours en automne, mais ce sera bientôt l’hiver.”

...

”درجہ حرارت نو ڈگری ہے۔ ابھی تک موسم خزاں ہی ہے۔ لیکن جلد ہی موسم سرد آجائے گا۔“






“مجھے موسم بھرکے انتظار ہے، لیکن میں موسم گرہ کو
زیدہ پسند کرتے ہوں، جب یہ اچھا اور گرم ہوتا ہے۔”

...

“J’ai hâte d’être au printemps, mais je
préfère l’été, quand il fait beau et
chaud.”



“مجھے سردی کے موسم برا نہیں لگتا۔ لیکن ہرش اور ہوا
مجھے پسند نہیں ہے۔”

...

“Je me fiche du froid. C’est la pluie et le
vent que je n’aime pas.”